

**سندھ آرڈیننس نمبر IV مجریہ 2002**  
**SINDH ORDINANCE NO.IV OF 2002**  
**سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) آرڈیننس، 2002**  
**THE SINDH CIVIL SERVANTS**  
**(AMENDMENT) ORDINANCE, 2002**  
**فہرست (CONTENTS)**

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

1. مختصر عنوان اور شروعات

Short title and commencement

2. 1973 کے سندھ ایکٹ XIV کی دفعہ 9 کی ترمیم

Amendment of section 9 of Sindh Act No.XIV of 1973

**سندھ آرڈیننس نمبر IV مجریہ 2002**  
**SINDH ORDINANCE NO.IV**  
**OF 2002**  
**سندھ سرکاری ملازم (ترمیم) آرڈیننس،**  
**2002**  
**THE SINDH CIVIL**  
**SERVANTS (AMENDMENT)**  
**ORDINANCE, 2002**

تمہید (Preamble)

[22 جنوری 2002]

آرڈیننس جس کے ذریعے سندھ سرکاری ملازم ایکٹ،

مختصر عنوان اور  
شروعات  
Short title and  
commencement  
1973 کے سندھ ایکٹ  
XIV کی دفعہ 9 کی  
ترمیم  
Amendment of  
section 9 of Sindh  
Act No.XIV of  
1973

1973 میں ترمیم کی جائے گی۔  
جیسا کہ سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، 1973 میں ترمیم  
کرنا ضروری ہو گیا ہے؛

جس کو اس طرح سے عمل میں لایا جائے گا؛  
اور جیسا کہ صوبائی اسیمبلی 14 اکتوبر 1999 والے  
اعلان تحت اور پروویزنل کانسٹیٹوشن آرڈر نمبر 1  
کے مطابق معطل ہے:

اور جیسا کہ سندھ کا گورنر معظمن ہے کہ موجودہ  
صورت حال میں فوری قدم اٹھانا ضروری ہے،

لہذا اب اس لئے مندرجہ بالا اعلان اور پروویزنل  
کانسٹیٹوشن آرڈر کے ساتھ پڑھیں 1999 کے  
پروویزنل کانسٹیٹوشن (ترمیم) آرڈر نمبر 9 اور اس  
سلسلے میں ملے ہوئے تمام اختیارات کو بروئے کار  
لاتے ہوئے سندھ کا گورنر بخوشی اس آرڈیننس کو بنا  
کر نافذ کرنا فرماتا ہے۔

1. (1) اس آرڈیننس کو سندھ سرکاری ملازم  
(ترمیم) آرڈیننس، 2002 کہا جائے گا۔  
(2) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

2. سندھ سرکاری ملازم ایکٹ، 1973 میں، دفعہ  
9 کے بعد مندرجہ ذیل نئی دفعہ شامل کی جائے گی:-  
“9-A. جب تک کچھ اس ایکٹ یا وقتی طور پر لاگو  
کسی دوسرے قانون یا کسی عدالت کے فیصلے کے  
متضاد نہ ہو، تب تک ایک سرکاری ملازم جس نے  
اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران کوئی بہادری کا کام  
کا کیا ہو یا اپنی ذمہ داری کے علاوہ اضافی  
کارکردگی دکھائی ہو۔ اسے آئوٹ آف ٹرن پروموشن یا  
انعامی یا اعزاز اس سلسلے میں دیا جا سکتا ہے، جیسا  
کہ بیان کیا گیا ہو۔

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے  
لیئے ہے جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔